



صحن کی بحالی، اسٹریٹ پارکنگ اور شور شرابہ کے حوالے سے: سٹی رہائشیوں کو اس موسم بہار کے دوران برامپٹن کو سرسبز و شاداب، صحت مندانہ اور محفوظ بنانے کی یاددہانی کراتا ہے

برامپٹن، آن (4 مئی 2021) – سٹی آف برامپٹن رہائشیوں کو پورا سال ضمنی قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی اہمیت کی یاددہانی کراتا ہے تاکہ شہر کو صاف ستھرا اور محفوظ رکھا جا سکے۔ ان معیارات کو قائم رکھنے کے لیے، ہر رہائشی کو اپنا کردار ادا کرنا ہو گا۔

اس موسم بہار کے دوران اپنے حصے کا کام کریں اور ایک شائستہ پڑوسی ہونے کا ثبوت دیں۔ رہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل ضمنی قوانین کو اپنے ذہن میں رکھیں:

- **اپنے صحن کو بحال رکھیں۔** اگر آپ کی گھاس کی لمبائی ایک سو سر بال سے زیادہ ہے، تو یہ اس کو کاٹنے کا وقت ہے۔ گھاس اور جڑی بوٹیوں کو باقاعدگی سے کاٹنا چاہیے تاکہ اس کی لمبائی 20 سینٹی میٹر سے زیادہ نہ رہے اور اس میں سے فالتو اشیاء بھی نکال دینی چاہیں۔
- **سائیڈ واکس کو صاف رکھیں۔** جب گاڑیاں سائیڈ واکس پر لٹکی ہوئی ہوں، تو یہ دوسروں کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہیں اور سائیڈ واکس غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔
- **سٹی کے ٹریفک اور پارکنگ کے ضمنی قوانین کے مطابق** گاڑیوں کو اسٹریٹس پر رات 2 تا صبح 6 بجے تک یا کسی بھی وقت تین گھنٹوں سے زیادہ کے لیے پارک نہیں کیا جا سکتا۔ گاڑیوں کو اسٹریٹس پر پارک کرنے کے حوالے سے، سٹی ہر سال فی گاڑی 14 دن تک اسٹریٹ پر پارک کرنے کی اجازت کی درخواستوں کو قبول کرتا ہے۔ پارکنگ کی درخواستوں کی منظوری سے گاڑیوں کو کسی بھی وقت تین گھنٹوں سے زیادہ دیر تک اور/یا رات 2 اور صبح 6 بجے کے درمیان اسٹریٹس پر پارک کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بنیاد پر تفریحی مقاصد کے لیے تیار کی گئی بڑی گاڑیوں کو بھی اسٹریٹ پر پارک کیا جا سکتا ہے۔ پارکنگ کی درخواستیں **پیمان** جمع کرائی جا سکتی ہیں۔
- شہریوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ شور شرابے سے گریز کریں تاکہ باقی لوگ محفوظ طور پر باہر اپنا وقت گزار سکیں۔ سٹی کے **شور کے بارے میں ضمنی قوانین** کے مطابق شور پیدا کرنا، شور کا سبب بننا یا کسی قسم کے ایسے شور شرابے کی اجازت دینا جو برامپٹن کے شہریوں کو ناگوار گزر سکتا ہو، ممنوع ہے

سٹی کے ضمنی قوانین کے متعلق مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca